

106464 - روزے کی حالت میں نفاس کا خون دوبارہ شروع ہو گیا

سوال

اگر نفاس والی عورت کو ایک ہفتہ میں ہی خون بند ہو جائے اور وہ رمضان کے روزے رکھنے لگے چند ایک روزے رکھنے کے بعد خون پھر آنا شروع ہو جائے تو کیا وہ اس حالت میں روزے رکھنا چھوڑ دیگی یا نہیں، اور آیا جو روزے اس نے رکھے تو ان کی قضاء کرے گی یا نہیں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

"اگر کسی نفاس والی عورت کو چالیس یوم کے اندر اندر خون بند ہو جائے اور وہ پاک ہو جائے کے بعد روزے رکھنے لگے اور چالیس یوم کے اندر ہی اسے دوبارہ خون آنے لگے تو اس کے روزے صحیح ہیں۔"

جب خون دوبارہ آنے لگے تو اسے نماز روزہ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ وہ نفاس کا خون ہے، اور جب تک پاک نہ ہو جائے نماز روزہ چھوڑے رکھے یا پھر چالیس یوم پورے ہونے تک، اور جب چالیس یوم پورے ہو جائیں تو وہ غسل کر کے نماز روزہ شروع کر دے چاہے وہ پاکی اور طہر نہ بھی دیکھے۔

کیونکہ علماء کرام کے صحیح قول کے مطابق نفاس کی انتہائی مدت چالیس یوم ہے، اس کے بعد اسے ہر نماز کے لیے وضوء کر کے نماز ادا کرنا ہوگی حتیٰ کہ خون بند ہو جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاضہ والی عورت کو حکم دیا تھا۔

اور ایسی عورت کے خاوند کو چالیس یوم کے بعد بیوی سے استمتاع وغیرہ کا حق حاصل ہے چاہے بیوی طہر اور پاکی نہ بھی دیکھے، کیونکہ اس حالت میں آنے والا خون فاسد خون ہے جو نماز روزہ میں مانع نہیں، اور نہ ہی خاوند کے لیے بیوی سے استمتاع کرنے میں مانع ہے۔

لیکن اگر چالیس یوم کے بعد اسے عام عادت کے مطابق ماہواری آ جائے یعنی جیسے ہی چالیس یوم پورے ہوں تو اس کے ماہواری کے ایام تھے تو یہ خون حیض شمار کیا جائیگا"

اسلام سوال و جواب

نگران اعلیٰ:
شیخ محمد صالح المنجد

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی توفیق بخشنے والا ہے " انتہی

فضیلۃ الشیخ عبد العزیز بن باز رحمہ اللہ.